



## قومی ٹرائنگولر ایک روزہ ویمن چیمپئن شپ میں پی سی بی بلاسٹرز کی مسلسل دوسری کامیابی

- سدرہ امین 44 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ قرار
- ثناء میر کے 3 شکار اور کائنات امتیاز کی نصف سنچری رائیگاں

لاہور، 18 ستمبر 2019ء:

قومی ٹرائنگولر ایک روزہ خواتین چیمپئن شپ کے دوسرے میچ میں پی سی بی بلاسٹرز نے پی سی بی ڈائنامائٹس کو دلچسپ مقابلے کے بعد 7 رنز سے شکست دے دی۔ لاہور جمخانہ کلب گراؤنڈ میں جاری ایونٹ میں پی سی بی بلاسٹرز کرکٹ ٹیم کی یہ مسلسل دوسری فتح ہے۔ فاتح ٹیم کی جانب سے سدرہ امین 44 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ قرار پائیں۔ پی سی بی ڈائنامائٹس کی جانب سے کائنات امتیاز کے 56 رنز اور ثناء میر کا 3 وکٹیں حاصل کرنے رائیگاں گیا۔

پی سی بی بلاسٹرز کے 163 رنز کے تعاقب میں پی سی بی ڈائنامائٹس کی پوری ٹیم 49.1 اوورز میں 155 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ڈائنامائٹس کی جانب سے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکے۔ 105 گیندوں پر 7 چوکوں کی مدد سے کائنات امتیاز نے 56 رنز بنائے۔ کپتان ندا ڈار نے 33 اور جویریہ خان نے 27 رنز بنائے۔ پی سی بی بلاسٹرز کی جانب سے عالیہ ریاض اور نشرہ سندھو نے 2،2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اس سے قبل پی سی بی بلاسٹرز کی کپتان رامین شمیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اوپنر سدرہ امین نے 44 رنز بنائے۔ ان کی اننگز میں 5 چوکے شامل تھے۔ مٹل آرڈر بیٹر طوبہ حسین نے ٹیم کے لیے 28 قیمتی رنز جوڑے۔ ان کی اننگز میں 2 چوکے شامل تھے۔ پی سی بی بلاسٹرز کی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 162 رنز بنائے۔ پی سی بی ڈائنامائٹس کی جانب سے ثناء میر نے 3 اور غلام فاطمہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

ایونٹ کا تیسرا میچ 20 ستمبر کو پی سی بی چیلنجز اور پی سی بی ڈائنامائٹس کے درمیان  
کھیلا جائے گا۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

**ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk  
@therealpcb  
@PakistanCricketBoard  
@PakistanCricketOfficial  
@therealpcb

PCB Headquarters  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4